

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ بِزِيَادَةٍ

قَصِيْدَةُ الْحُسْنَىٰ

فِي

أَسْمَاءِ النَّبِيِّ الْعَظِيْمِ

حَضْرَتِ مولانا محمد موسیٰ زوقانی بازی

پبلیشرز، لاہور

إدارة تصنیف و ادب

قلم و نطق، 13، ڈی، بلاک، نیشنل آباد، لاہور

پاکستان

حقوق طبع و نام ادارہ محفوظ ہیں

قصیدہ حسنیٰ پڑھنے کے فوائد بیشمار ہیں۔ اسماء نبویہ کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چند اہم فوائد یہ ہیں۔

(۱) ہر قسم کی بیماری سے باذن اللہ شفاء (۲) مقدمات میں فتح (۳) دشمنوں کے شر سے حفاظت (۴) ملازمت میں ترقی (۵) افسران بالاسخر (۶) ماتحت عملہ تابع (۷) تجارت میں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو کر بڑا نفع ہوگا (۸) میاں بیوی میں محبت ہوگی، بیوی پڑھے تو خاوند تابع ہوگا اور خاوند پڑھے تو بیوی فرمانبردار ہوگی (۹) سفر بخیر ختم ہو کر بخیر واپسی ہوگی (۱۰) طالب علم کا ذہن تیز و حافظہ بڑھے گا (۱۱) نیک اعمال کی توفیق ملے گی (۱۲) دلوں کی تسخیر کیلئے بہت مفید ہوگا (۱۳) غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی (۱۴) رزق میں فراخی اور جادو سے بند کیا ہوا کاروبار پہلے سے زیادہ چالو ہوگا (۱۵) جنات و سحر کا اثر دور ہوگا (۱۶) بے اولاد و عقیمہ عورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائیں گے (۱۷) گمشدہ چیز مل جائیگی (۱۸) گھر سے بھاگا ہوا شخص جلد واپس آجائیگا (۱۹) جس کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں تو وہ ان شاء اللہ زندہ رہیں گے (۲۰) امتحان میں کامیابی ہوگی (۲۱) دلوں کا وسوسہ اور خوف و بے اطمینانی دور ہو جائیگی (۲۲) استحضارِ قلب سے بار بار پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی اور خواب میں آپ ﷺ کی زیارت ہوگی۔

(مصنف) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین سے اجازت لینے سے ان شاء اللہ تعالیٰ تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔

نوٹ :- عامل بننے کے بغیر بھی یہ فوائد حاصل ہونگے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن عامل بننے سے تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قصیدہ حسنیٰ کے عامل بننے کے طریقے چار ہیں۔  
 (اول) ۴۱ دن تک ہر روز ۳ دفعہ پڑھے (دوم) ۴۱ دن تک روزانہ ۷ دفعہ پڑھے (سوم) کسی ماہ (ربیع الاول ہو تو بہتر ہے) تین دن اعتکاف کر کے روزہ رکھے ایام اعتکاف میں روزانہ ۱۵ مرتبہ پڑھے، عامل بن جانے کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھے (چہارم) اول ۵۲ مرتبہ درود شریف پڑھ کر قصیدہ شروع کرے پھر آخر میں بھی ۵۲ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ۴۱ دن تک روزانہ ایک مرتبہ اسی طریقہ سے پڑھے۔

پڑھنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ (مصنف) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت کی اولاد و اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا ذَمًّا مَّصَلِيًّا وَ مُسَلِّمًا ، اَمَّا بَعْدُ ۔ ۱۹۶۴ء کو بندہ کا قصیدہ طوبیٰ  
(منظوم اسماء اللہ الحسنیٰ) شائع ہوا تھا۔ عوام و خواص، مردوں اور عورتوں میں،  
عرب و عجم میں قصیدہ طوبیٰ کو نہایت قبولیت حاصل ہوئی۔ عربین شریفین میں  
متعدد علماء و اولیاء اللہ و عوام اسے بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ قصائے حاجات  
کے لیے ہزار ہا انسانوں نے تیرہ ہفت پایا، فاعلم اللہ۔

متعدد اجاب نے قصیدہ طوبیٰ کے طرز پر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں منظوم  
کرنے کا بار بار ذکر کیا اور تاکید کی۔ ان کے اصرار کے علاوہ بندہ کو خود بھی اس کا بڑا اشتیاق  
تھا۔ بعد الاستخارہ توکل علی توفیق اللہ کرتے ہوئے انہیں منظوم کیا، جو ناظرین و قارئین کی  
خدمت میں پیش ہے۔ ۱۳۹۴ھ کو جب بندہ سفر حج پر گیا تو مقصد تبرک خانہ کعبہ کے  
سامنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالمواہمہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
کا یہ قصیدہ بار بار پڑھا۔ پڑھتے وقت جو کیفیت قلبی اُرد ہوتی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔  
فَاَشَدَّ آيَاتِ اللّٰدِيْنَ اَحْسَنُ اللّٰحْسَنِ زِيَادَةً سے بطور تبرک تفاعول انداز کرتے ہوئے اس  
مبارک منظوم کا نام ”الحسنیٰ“ رکھا ہوں۔

فَاَشَدَّ قَصِيْدَةُ اللّٰحْسَنِ يَس ۵۲۱ نام جمع ہیں جو کہ تپ متبرہ مثلاً مواہب، شرح  
زرقاتی، قولی برہنہ وغیرہ سے بڑی اعتیاط سے اندیکہ گئے ہیں۔ بندہ کے علم ناقص ہیں عاقبت  
صوت میں قصیدہ حسنیٰ و نبیائے اسلام میں بے نظیر و پہلی کوشش ہے۔ بعض کتابوں میں بھیجا ہے  
کہ بعض اولیاء کرام کی مدد اللہ تعالیٰ سے خواہش رہی کہ کوئی شاعر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں اسی  
طرح منظوم کرے۔ فَاَشَدَّ۔ ان اسماء مبارکہ کی برکت بہتوں کی عاین قول اور حاجتیں پوری  
ہونگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ قارئین قصیدہ حسنیٰ یہ برکات خود محسوس کریں گے۔ میں نے خود کئی مشکلات کے لیے  
نہایت مفید ٹوٹا پایا۔ فَاَشَدَّ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ شرکاء بدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسماء جو

بخاری میں ہیں پڑھنے کے بعد قبولیت کا تجربہ ہے۔ نیز حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے شرح البیہ  
 وغیرہ میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے ساتھ قہار جو اولیاء اللہ تھے کے نائبرے مبارک ہیں، کا غدیر  
 لکھ کر گندم وغیرہ کھانے پینے کی چیزوں میں رکھنے سے ان میں بڑی برکت ہوگی، نیز ہر آفت  
 ظاہرہ سے محفوظ ہوگی، اپنے پاس کے تو ہر آفت امان ہوگی، دردمسائل ہوگا وغیرہ وغیرہ۔  
 وہ سات نام یہ ہیں سعید بن المسیب، عروۃ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن،  
 خارجہ بن زید، بنتی اللہ بن عبد اللہ، سلیمان بن یسار۔ نیز اسماء اصحاب کف کے  
 فائدے تو مشہور ہیں، محدثین و اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے تجربہ کے پیش نظر اسماء اصحاب کف کے  
 چند فائدے یہ ہیں۔ حصول ہر مطلوب، بھاگے توئے کی واپسی، آگ لگی ہوئی ہو تو اس میں ڈلنے سے  
 وہ بچ جائیگی یا کم ہو جائیگی، بچے کا دلانا، کھیت کی آبادی و حفاظت، بخار، درد سر، غنا، ترقی،  
 درد و زور کی آسانی، حفاظت مال وغیرہ وغیرہ مقاصد میں نہایت مفید ہیں۔ پس جب صحابہ  
 رضی اللہ عنہم و بعض اولیاء اللہ کے ناموں کی اتنی برکات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہیں تو سید و اولیاء  
 الاخرین رحمۃ اللعالمین کے اسماء کی برکات بے شک حساب باہر ہوں گی اور فضلانے حاجات  
 و قبولیت دعا کے لیے اکسیر ہوں گے۔

فائدہ: جس کو پڑھنا ہو وہ اول آخر میں تین نفع و در د شریف پڑھے۔ قصید پڑھتے وقت  
 تمام توجہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کئے اور یہ خیال تصور کئے کہ قاری مدینہ منورہ میں  
 گنبد خضراء اور قبر مبارک کے سامنے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصیدہ وحیہ سنار ہا ہے۔ اسی احتضار  
 تصویر سے ان شاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا، دل پر کیف و سرور طاری ہوگا۔

محمد رموی روحانی بازی

استاذ جامعہ اشرفیہ - لاہور

پاکستان

۱۳۹۰ھ

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَمِدْتُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ

میں حمد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے

عَلَى النَّعْمَاءِ حَمْدَ الْمُخْلِصِیْنَ

اس کی نعمتوں پر اخلاص والوں کی حمد

أُصَلِّیْ بَعْدَ حَمْدِ اللّٰهِ تَتْرٰی

دروہ پجیتا ہوں حمد خدا کے بعد مسلسل

عَلَى الْهَادِیْ نَبِیِّ الْمُرْسَلِیْنَ

ہدایت کرنے والے نبی پر جو تمام پیغمبروں کے نبی ہیں

فَیَا رَبِّ احْنِنِیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ

اے اللہ مجھے بچا اپنے نفس کے شر سے

وَشَیْطَانٍ وَ مَنْ كَانُوا خَوَّوْنَا

شیطان اور ان دشمنوں کے شر سے جو ہیں خیانت کرنے والے

وَمِنْ مَرَضٍ وَ آفَاتٍ وَ غَمٍّ

اور بچا تمام امراض، آفات اور غموں سے

وَمِنْ فِتْنٍ دَهَتْ جِسْمًا وَ دِیْنَ

اور اُن فتنوں سے جو عیب دار کریں جسم اور دین کو

بِحَاہِ الْمُصْطَفَى الْأَسْنَى مَقَامًا

یہ دعا قبول ہو، محرمت نبی برگر، یدہ بلند درجہ والے

حَبِيبِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

میرے حبیب جو رحمت ہیں تمام عالم کے لیے

مُحَمَّدِيكَ النَّقِيَّ الْقَلْبَ حَيًّا

خوبستائش کیجئے، پاکیزہ دل والے حیات میں

وَمَيِّتًا فَهُوَ أَرْكَى الظَّاهِرِينَ

اور بعد الموت۔ پس آپ تمام پاکیزوں سے زیادہ پاکیزہ خصال ہیں

هُوَ الْمُدَاثِرُ الْمَذْكُورُ خُلُقًا

آپ کلاف اور مٹنے والے ہیں شتم سے اخلاق والے

هُوَ الزَّمَلُ الْمَقْرِي سِنِينَ

آپ کپڑے میں پٹنے والے ہیں، قرآن و دین پڑھانے والے کئی سال تک

رَفِيقٌ ۱۱، مِنَّةُ اللَّهِ حَرِيصٌ ۱۲

خدا کے رفیق، احسان خدا بہت چاہنے والے

عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْتَسْلِمُونَ

تمہارے ایمان کو اسے مسلمانو! ۱۳

فَصَبِحْ دَهْتَمٌ ۱۳، وَرَسَّاعٌ ۱۵ عَفِيفٌ ۱۶

صاحت لگے، نرم شو، پر ہیر گار، پاک دامن

وَسَيِّدًا وَلِدَا أَدَمَ أَجْمَعِينَ

اور سردار ہیں سب اولادِ آدم علیہ السلام کے

جَوَادٌ صَاحِبُ الدَّرَجَاتِ بَرٌّ

سخی ، بلند درجات والے بڑے نیک

دَلِيلُ الطَّالِبِينَ الْحَاضِرِينَ

رہنما ہیں حق کی جستجو کرنے میں حیران لوگوں کے لیے

عَطُوفٌ سَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ رَاحٍ

مہربان ، انس و جن کے آقا امیدوار

وَرَحْبُ الْكَفِّ لِلْمُسْتَرْفِدِينَ

اور کشادہ ہاتھ والے مانگنے والوں کے لیے

نَبِيُّ الرَّاحَةِ الدَّوْمِيِّ فَطُوبَى

دائمی راحت دینے والے نبی ہیں کتنے مبارک ہیں

لِمَنْ كَبَّرُوا وَتَابُوا مُصْلِحِينَ

وہ لوگ جنہوں نے لیک کہا اور توبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی

مَقِيلٌ مَعْتَمِرٌ عَبْدٌ صَبُورٌ

معاف کنندہ غنیمت مند خدا بہت صبر کرنے والے

وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ الصَّابِرِينَ

اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے پاس ہیں

جَلِيلٌ جَهْزَمٌ ذُو السَّيْفِ نَدَبٌ

عظمت والے، منہل سرگول پشانی والے ، تلوار والے عقل مند

ضِيَاءٌ دَامِعٌ الْمُسْتَكْلِبِينَ

روشنی ، دلفن کرنے والے شہیروں کو

وَكَانَ مُكْتَفٍ قُطْبٌ هَامٌ

کافی ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ، ملر دین ، بلند ہمت سردار

وَمَكْنِي وَلِيُّ الصَّالِحِينَ

کفایت کیا ہوا ، دوست ہیں نیکو کاروں کے پُر

مُهَيْمِنًا وَمُصَلِحًا شَفِيقٌ

ہلکے امین و امن دہندہ اور اصلاح کرنے والے نبی شفقت والے

مَقِيمُ السُّنَّةِ الْغَرَاءِ فِيْنَا

سنت بیضار کے طریقے ہمارے اندر قائم کرنے والے

وَخَاتِمُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ طَرًّا

اور تمام انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے

وَخَاتِمُهُمْ فَتَبَّ الْمُنْكَرُونَ

اور مہر ختم نبوت پس تباہ ہوں منکرین ختم نبوت

فَلَا يَرْجُو النَّبُوَّةَ بَعْدَ هَذَا

اور توقع نہیں رکھتا نبوت کی اس کے بعد

سِوَايَ مَنْ كَانَ دَجَالًا لَعِينًا

مگر وہ شخص جو ملعون دجال ہو

فَلَعْنَةُ سَابِقَاتِ أَعْدَادِ رَمَلٍ

پس خدا کی لعنت ہو ریت کے اُن گنت ذروں کے برابر

عَلَى الْأَتْبَاعِ وَ الْمُتَنَبِّئِينَ

جھوٹے نبی کے متبیین پر اور جھوٹے مدعیان نبوت پر

كَفَيْلٌ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ كَيْتٌ

کفالت والے ، مبارک جوتوں والے شیر و بہادر

وَصَاحِبُ مَنْبَرٍ وَإِلَّيْنَا

مبارک منبر والے ماکم ہیں جو ہماری سرپرستی فرماتے ہیں

وَمَمْنُوحٌ وَ مَوْعِظَةٌ أَبِوَالْقَا

کلمات دیئے ہوئے باعث . عزت قاسم کے باپ

سِمِ الْعَالِيِ أَبِ الرَّؤْمِيْنَ

بند تمام مومنوں کے روحانی باپ ہیں

رَشِيدٌ صَاحِبُ الْآيَاتِ يَهْدِي

رُشد والے معجزات والے جو راستہ بتاتے

مَنْ اسْتَهْدَوْا فِرَادِي أَوْ ثَيْنَا

ہدایت مانگنے والوں کو تنہا تنہا اور گروہ درگروہ

وَأَمْرًا وَنَاهِينَا وَقَاضٍ

ہیں امر و نہی کرنے والے اور فیصلے کرنے والے

طَيْبٌ لِحِظَةٍ يَشْفِي الْحَزِينَا

دلوں کے حبیب ، کیونکہ آپ کی نگاہ غمگین کے لیے باعثِ تسکین ہے

قَسِيمٌ مَوَمِنٌ مَنِيحٌ وَسِيمٌ

نویسورت ، بڑے ایمان والے ، نجات دہندہ ، محسن والے ،

جَسِيمٌ فَاقَ كُلَّ الْفَاقِينَا

معزز ترین والے فاقین ہیں تمام معززین پر

خَلِيلُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ شَهَابٌ

خاص دوست خدا، ستارہ کے ہونے، شعلہ حق،

شُكْرٌ شَاكِرٌ لِلْمَحْسِنِينَ

زیادہ شکر کنندہ، شکر محرز ہیں احسان کرنے والوں کے

خَيْرٌ حَامِلٌ لِلْوَاءِ حَمِيْدٌ

خبردار، حمد کا جھنڈا اٹھانے والے

وَحَمَادٌ حَمِيْدٌ الْعَارِفِيْنَ

اور زیادہ حمد کرنے والے، ستائش کیے ہوئے ہیں تمام بزرگوں کے

وَحَمْدٌ أَحْمَدُ الْمُخْتَصُّ حَمْدًا

اور میں ستائش، سب سے زیادہ ثنا خواں خدا، حمد آپ کی خصوصیت ہے

فَاتَّ الْحَمْدُ كَان لَه قَرِيْنًا

کیونکہ حمد آپ سے (آپ کی امت و دین سے) وابستہ ہے

سَيِّدٌ صَيِّبٌ نَبَأٌ وَمَرْءٌ

بلند، پاک نفس والے، عظیم خبر، مرد

عَظِيْمٌ عِصْمَةٌ الْمُسْتَعِيْنِيْنَ

عظیم ایشان، پناہ ہیں حفاظت طلب کنندگان کے لیے

وَأَنْوَارٌ بَارِعٌ فَهْمٌ بَدِيْعٌ

نوب نورانی، فائق، بڑے سمجھ دار، بڑے حسن والے

وَمَرَحْمَةٌ لِأُمَّمِ الْعَامِلِيْنَ

اور سبب رحمت، نیک عمل کرنے والوں کے پیشوا

وَدَانَ خَيْرٌ زَلْفٌ سَاحِيحٌ

اور خدا کے قریب، فضل والے، سبقت والے، کمال میں رائج،

وَ اَوَّاهٌ وَ بَدَّءُ الْمُخْتِيْنَا

خدا کے سامنے زاری کنندہ، سردار و بہد ہیں عاجزی کرنے والوں کے لیے

كَلِيْمُ اللّٰهِ اِكْلِيْدٌ مَّتَبَرٌ

اللہ تعالیٰ کے ہم کلام، تاج (انبیاء) میں نیکی کرنا

وَ فَيْئْتُنَا اِذَا نَحْنُ اِبْتَلِيْنَا

اور ہمارے مرجع جب ہم مبتلائے مصائب ہوتے ہیں

وَ ذُو شَرَفٍ وَ ذُو مَجْدٍ كَرِيْمٌ

صاحب شرافت، صاحب بزرگی، باعزت سخی

وَ اَذُنٌ الْخَيْرِ خَيْرُ السَّامِعِيْنَا

اچھی بات سننے والے، سب سامعین سے بہتر ہیں

وَ ذُو تَاجٍ وَ ذُو خَلْقٍ عَظِيْمٍ

صاحب تاج رسالت، بلند اخلاق والے

وَ يَرُوِيْ كَاَنْ قَرَأْنَا مَبِيْنَا

روایت ہے کہ آپ کے اخلاق بعینہ قرآن مجید تھے

وَ صَادِقْنَا وَ مَصْدُوْقٌ وَ صِدْقٌ

ہم سب میں سچے سچے کیے ہوئے، بعینہ سچ،

وَ اَصْدَقْنَا مُصَدِّقٌ صَادِقِيْنَا

سب سے زیادہ سچے، سب راست بازوں کی تصدیق کرنے والے

وَإِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ سِرَاجًا

اور بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، چراغِ روشد،

وَمُصْبِحًا هَدًى نُّورًا مَّكِينًا

قندیلِ نجات، ہدایت، نور، جاہ و منزلت والے

وَمَفْتَحًا لِّجَنَّاتٍ إِمَامًا

اور بہتوں کی جہاں، پیشوا،

وَمَا مُونًَا وَمَدْعُوًّا أَمِينًا

امانت دار، بلاتے ہوئے اور مقصد

وَرَحْدًا خَيْرَةَ اللَّهِ مُضِيًّا

خوش نصیب اللہ کے چنے ہوئے بزرگِ علم روشن کرنے والے

وَرِضْوَانًا لَهُ عِلْمًا مَّتِينًا

اللہ تعالیٰ کی رضا، علامتِ ہدایت، قوی

هُوَ الْمَدِينُ مُسْتَغْنٍ مَّبِيحٍ

آپ مرینہ منورہ کے باشندے ہیں، غیر اللہ سے مستغنی، جائز تانے والے

مَدِينَةُ عِلْمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آپ کا علم کا شہر ہیں خدا تعالیٰ کے علم کا

وَمُبْتَلًى وَ مُثَبَّتٌ كُلُّ أَمْرٍ

اور عاجزی کرنے والے، ہر شے کو قائم کرنے والے

عَلَى مَا وَاه خَيْرِ الْمُنْتَبِتِينَ

اپنی مناسب جگہ پر سب قائم کرنے والوں سے بہتر ہیں

۱۳۵ جَزَائِ مُزِيْدٌ ۱۳۶ ۱۳۷ كُلُّ شَرِكٍ

سز میں جہاز والے ، دور کرنے والے ، شرک گمراہ

۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ بَدَاۤیْ فِی النَّاسِ اَحْقَابًا مِّمَّنَا

جو ظاہر ہو چکا تھا لوگوں میں کئی صدوں سے

۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ شَرِیْفٌ ۱۴۴ ۱۴۵ هٰشِیْمِیٌّ ۱۴۶ ۱۴۷ یَثْرَبِیٌّ

شریف ، ہاشمی ، یثرب (نام منہ) والے

۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ وَ قَرَشِیٌّ ۱۵۱ ۱۵۲ اِذَا مَا یَنْسِبُوْنَ

اور قریشی ہیں جب لوگ آپ کی نسبت بیان کریں

۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ صٰرَاطُ اللّٰهِ قٰیْدٌ ۱۵۶ ۱۵۷ كُلِّ خَلْقٍ

اللہ تعالیٰ کی راہ ، تمام مخلوق کے رہبر

۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ وَ لَمْ نَرَمْثَلَهٗ فِی الْقٰیْدِیْنَ

اور ہم نے آپ جیسا قائم و رہبر نہیں دیکھا

۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ وَ فَاِضِلُّ ۱۶۴ ۱۶۵ كُلِّ خَلْقٍ اللّٰهِ شَافٍ

اور تمام مخلوق میں بڑے ، شفا دہندہ

۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ یَطِّبُ ۱۶۹ ۱۷۰ الْخٰلِقِ الْمَرَضِ الدَّفِیْنَا

اللہ تعالیٰ کی روحانی طب کے ذریعہ پوشیدہ امراض سے

۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ وَجِیْدٌ ۱۷۴ ۱۷۵ نٰصِبٌ ۱۷۶ ۱۷۷ الْاَحْکَامِ ۱۷۸ ۱۷۹ مُجَدِّدٌ

یگانہ خصال ، احکام دین قائم کرنے والے ، عین بندگی

۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ وَ نٰثِرُهَا ۱۸۳ ۱۸۴ وَ كٰنَ ۱۸۵ ۱۸۶ بِدَاۤیِ قَمِیْنَا

اور احکام پھیلانے والے اور آپ اس کے لائق تھے

وَ وَاَضَعُ اِصْرَهَا عَنَّا فَشُكْرًا

اور احکام کا بوجھ ہم سے کم کرنے والے ، پس تم شکر گزار ہو آہ کے

وَ وَاَعِدْنَا وَ سَيِّدَنَا يَقِينًا

اور ہمارے ساتھ دودھ نہایت کفیلے والے اور ہمارے سزاور یقیناً

وَ عَامِلَهَا وَ صَادِعُهَا امْتِثَالَ

اور ان پر عمل کنندہ اور کھول کر بیان کرنے والے حکم خدا بجا لاتے ہوئے

وَ كَانَ لِأَمْرِ خَالِقِهِ ضَمِينًا

اور آپ اللہ کے ہر حکم بجا لانے کے کفیل تھے

وَ شَارِعُهَا وَ صَاحِبُ شَرِيعِهِ مَا

اور احکام بیان کرنے والے ، صاحب شریعت ، آپ کی

أَتَمَّ شَرِيعَةً وَ أَتَمَّ دِينًا

شریعت کتنی کتنی اور دین کتنا اکمل ہے

سَمِيعٌ نَاطِقٌ بِالْحَقِّ حَقٌّ

آسرار سننے والے ، حق بولنے والے حق ،

وَ كَانَ الْحَقُّ فِطْرَتَهُ وَ طِينًا

اور حق آپ کی فطرت و خمیر تھا

حَنِيفٌ عَاقِبُ يَاسِينَ أَمِّنٌ

حق کی طرف آسان ، انبیاء کے بعد آنے والے ، لئے انسانوں کے سردار ، پیغام امن

نَجِيبٌ ذُو حُدُودٍ مُنْجِبِنَا

شریف ، اُن آباء و اجداد والے جو عالی نسب تھے

نَجِيًّا ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

اللّٰهُ مَوْصُولٌ شَهِيْرٌ

اللہ کے ہمزاد ، پیچھے ہونے ، بڑی شہرت والے

هَدِيَّةٌ رَبِّهِ لِمُهْتَدِيْنَا

اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہیں ہدایت پانے والوں کے لیے

حَكِيْمٌ حَاكِمٌ دَاعٍ وَ مَجِيٍّ

حکمت والے ، حکم کنندہ ، دعوت دہندہ ، نزد کنندہ بربریت

قُلُوْبًا رَاثًا ذَنْبٌ رِيُوْنَا

ایسے دلوں کو جن پر گناہ کا زنگ چڑھا ہوا تھا

وَمَشْهُودٌ مُّصَارِعٌ كُلِّ قَرِيْنٍ

شہرت والے ، محرانے والے ہر مقابل کو

وَأُعْطِيَ مِثْلَ قُوَّةِ أَرْبَعِيْنَا

اور آپ کو پچاس بھتی آدمیوں کی قوت دی گئی تھی

وَسِلْمٌ لِّلَّذِيْنَ آتَوْهُ سِلْمًا

اور صلح کرنے والے ان سے جو صلح کرنے آئیں

وَحَرْبٌ لِّلَّذِيْنَ يَّحَارِبُوْنَا

اور جنگ کرنے والے ان سے جو غالب جنگ ہوں

وَسَيْفٌ اِلٰهِيٌّ سَلَّ عَلٰی عَدُوِّ

اللہ تعالیٰ کی تلوار جو سونسی ہوئی ہے دشمنوں پر

اِذَا دَارَتْ رَاخِي حَرْبٍ طُحُوْنَا

جب بھی گھومنے لگے شدت جنگ کی پیٹنے والی چٹکی

وَمَتَّلُوْا عَلَیْهِ الْوَاْحِیُّ تَالِی

آپ پر وحی کی تلاوت کی گئی ہے، تلاوت قرآن کرنے والے

وَصَوْلٌ وَّ وَاَصِلٌ مَا یَقْطَعُوْنَ

بلندی کو پہنچنے والے، جوڑنے والے وہ رشتے جنہیں لوگ کاٹتے ہیں

وَعَزُّ الْعَرَبِ مُقْتَصِدٌ بَلِیْغٌ

عرب کی عزت، درمیانی راہ چلنے والے، بلاغت والے،

وَيَقْلَى اللّٰهُ قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ

اور اللہ بے مروت رکھتے ہیں اسراف کنندہ قوم کو

وَجَبَّارٌ عَلَی الْكُفَّارِ بَشْرٰی

کفار پر غالب ہیں، بشارت ہیں

لِقَوْمٍ مُّسْلِمِیْنَ وَفُخْلِصِیْنَ

مسلمانوں اور اخلاص والوں کے لیے

عَلَى كَامِلٍ قَرْمِیْرِ

بلند، کامل، چاند، روشن کرنے والے

وَقِیْمًا وَفَخْرٌ بِهِ هُدِیْنَا

ہمارے سرپرست سزا اور ہمیں آپ کی برکت سے ہدایت ملی ہے

أَجْرٍ نَّاصِحٌ مُّسْتَغْفِرٌ مِّنْ

پناہ دینے والے، خیر خواہ، مغفرت مانگنے والے

غَفْوٍ لِّلْعَصَاةِ النَّادِمِیْنَ

اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب گنہگاروں کے لیے

مَقَّةٌ ضَارِعَةٌ ۱۹۵ بَشَرٌ ۱۹۶ يَقِينًا ۱۹۷

سب انبیاء کے بعد آئے، تواضع والے بشر ہیں یقیناً ؛

وَأَنْصَرًا ۱۹۸ بَدَأَ فَتَبَّ الْجَاهِدُونَ ۱۹۹

اور آپ کی بشریت نص سے ثابت ہے۔ پس تباہ ہوں آپ کی بشریت کی بیکریں

شَفِيقٌ ۲۰۰ نَابِئًا ۱۹۹ عَدْلًا ۲۰۱ حَسَنًا ۲۰۲

شفقت والے ، پھینکنے والے ، بین عدل ، رحمت ،

وَتَذِكْرًا ۲۰۳ لِمَنْ يَتَذَكَّرُ ۲۰۴

اور باعث نصیحت و یاد دہانی ہیں نصیحت ماننے والوں کے لیے

أَسَدًا ۲۰۵ النَّاسِ ۲۰۶ أَوْفَاهُمْ ۲۰۷ ذِمًّا ۲۰۸

سب زیادہ سیدھی راہ پر اور زیادہ وفادار حرمت کے

وَأَنْفُسُهُمْ ۲۰۹ إِمَامًا ۲۱۰ الْعَامِلِينَ ۲۱۱

سب میں بہتر، پیشوا ہیں عمل کنندگان کے لیے ،

أَشَدَّهُمْ ۲۱۲ وَوَأَفَّ ۲۱۳

سب سے زیادہ شدت و قوت والے ، دفا کنندہ ، تیز ذہن والے

وَأَمْجَدَهُمْ ۲۱۴ وَأَوْسَطُ ۲۱۵ مَاجِدِينَ ۲۱۶

سب سے زیادہ شریف ، سب شریفوں میں برگزیدہ

وَأَتْقَاهُمْ ۲۱۷ وَأَخْشَاهُمْ ۲۱۸ لِرَبِّ ۲۱۹

سب سے زیادہ متقی اور خدا سے ڈرنے والے ،

وَأَعْلَمُهُمْ ۲۲۰ بِمَا هُمْ يَجْهَلُونَ ۲۲۱

اور زیادہ جاننے والے ان امور کو جنہیں لوگ نہیں جانتے

وَاجْرَاهُمْ وَاحْسَنَهُمْ نَجِيدٌ  
زیادہ سنی اور زیادہ اچھے، بڑے شجاع

وَارْجَحْ كَلِمَهُمْ عَقْلًا تَرْزِينًا  
سب سے اعلیٰ ہیں یہ لحاظ عقل سنجیدہ

وَاشْجَعُهُمْ وَاصْدُقْهُمْ حَدِيثًا  
بڑے شجاع اور بڑے سچے باتوں میں

وَارْحَمُهُمْ وَاولَّ مَسْلُومِينَ  
اور زیادہ رحم کرنے والے اور پہلے مسلمان ہیں

وَمَسْعُودٍ وَمَخْتَارٍ مَيِّبٍ  
نیک، مختار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے

فَوَاتِحُ نُورٍ عِلْمِ الْعَالَمِينَ  
ظاہر کرنے والے ہیں علم علماء کی روشنی کو

نَبِيٍّ لِلْمَلْحَمِ ذَوِ السَّرَايَا  
نبی ہیں جہاد و جنگ کے فوجوں والے

وَقِتَالٍ قَتُولِ الشَّاكِمِينَ  
زیادہ قتل کنندہ، خوب ہلاک کرنے والے ہیں اسلام کو گالی دینے والوں کو

مَلَقَىٰ اَيَّ قُرْآنٍ كَرِيمٍ  
آیات قرآن کریم دیے ہوئے

وَذَكَرَ اللّٰهَ خَيْرَ الْعَالَمِينَ  
اور خدا کا ذکر سارے عالم سے بہتر ہے

وَ غَالِبٌ كَلِّ ذِي جَيْشٍ عَظِيمٍ

اور غالب پانے والے ہر بڑی فوج والے پر

يَنْصُرُ اللَّهُ خَيْرَ النَّاصِرِينَ

خدا کی مدد سے، خدا سب سے بہتر مدد کرنے والے ہیں

وَ صَاحِبُ كَوْثَرٍ الْبَارِي فَيْسَقِي

اللہ تعالیٰ کی نہر کوثر والے، تو آپ پلائیں گے

كَرَامًا مِّنْهُ نِعْمَ الْمُسْتَقُونَ

اس سے نیکو کاروں کو، زبے نصیب ان پینے والوں کا

وَ صَاحِبُ حَوْضِهِ الْمَوْوِدِ نَرْجُو

صاحب حوض کوثر جس پر مومنین آئیں گے۔ ہم بھی امیدوار ہیں

لَهُ كَأْسًا دِهَاقًا وَ أَرَادِينَا

اس کے بَاب پیالے کے حوض پر آتے وقت

سَرَّوْفٍ سَيِّدِ الْكُونَيْنِ هَادٍ

مہربانی کرنے والے، دونوں جہان کے سردار، راستہ دکھانے والے

وَ مَهْدَىٰ وَ سَابِقُ سَابِقِينَا

ہدایت پانے والے اور سب سبقت کرنے والوں سے آگے ہیں

وَ تَنْزِيلٌ وَ ضَحَّاكٌ ضَحْوَاكُ

نازل کیے ہوئے، ہنس مکھ، بہت مسکرنے والے

وَ مُصْلِحٌ مَا عَسَىٰ أَنْ لَا يَكُونَا

اصلاح کنندہ ان امور کے جو بظاہر ناممکن تھے

عَلَامَةٌ قُدْرَةُ الْبَارِي فَلَاحٌ ۲۴۶

قدرت خدا کی واضح علامت (دباحت اکابیلی)

وَمَقْدَمًا شِفَاءً الْمَفْلِحِينَ ۲۴۸

ہم سب انسانوں سے آگے، روحانی شفاہیں کامیابوں کے لیے،

وَمِيَسِّرُ شَرْعَهُ عَمَلًا وَفَجْرًا ۲۵۱

اپنی شریعت کو عملاً آسان کر دکھانے والے، مانند صبح

وَمُخَيَّرُ حُكْمٍ مَا لَا يَعْلَمُونَ ۲۵۲

وہ احکام بتانے والے جن سے لوگ ناواقف تھے

حَلِيمٌ عَدَاةً وَ مَيْدًا شَرًّا ۲۵۳

عقل و حوصلے والے، ذمیرہ آخرت اور دین کو نئے نئے شر کو

وَقَدْ مَلَأَ السَّهْوَةَ وَالْحَزُونَ ۲۵۴

جس نے پُر کر دی تھی (کل زمین) نرم و سخت زمین۔

وَسَرَّهَابٌ وَ رَجُلٌ الشَّعْرُ زَاةٌ ۲۵۵

خدا سے بہت ڈرنے والے، معتدل گھونگریلے بال والے، بارون چہرے والے

سَدِيدٌ زَاجِرٌ الْمُتَهَكِّكِينَ ۲۵۶

مضبوط و مستقیم، روکنے والے بے پرواہ لوگوں کو پُر

وَأَبْلَجٌ أبيضُ الأَعْضَاءِ حُسْنًا ۲۵۷

کشادہ ابرو، ہلکے دار خوبصورت اعضاء والے،

أَعزُّ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ جَبِينًا ۲۵۸

سب سے زیادہ نرانی چہرے والے، حسین تر جبین والے پُر

وَحَطَّايَا وَحَمَّيَاطَا أَحْيَدٌ

حرم کے محافظ ، عورتوں کو حرام سے روکنے والے (رضی نام) ایک ڈر کرنے والے

وَقَدَمَايَا إِمَامُ الْمُتَقِينَا

آگے آگے (رضی نام) متقیوں کے پیشوا

أَخْوَانَا وَ أَزْكَىٰ أَخْرَايَا

صبح دین والے ، مبارک تر ، آخری نبی (انجیلی نام)

أَسَدٌ وَ أُمَّةٌ لِلْمُقْتَدِينَا

ستیم تر جامع رہنا اتباع کرنے والوں کے لیے

هُوَ الْحَكْمُ وَالْحَلَالُ مَاذَا

آپے حاکم ہیں ، بہادر آقا ، صاف و ستھرے (توراتی نام)

وَ فِي الْعَقْبَىٰ خَطِيبٌ الْوَافِدِينَا

اور بروز حشر دربار خدا میں وفدوں کے خطیب

وَ خَيْرٌ فَارَاقٌ فَارَاقِلِيْنَا

اور بہتر ، حق و باطل میں فرق کنندہ ، غصے اور ہرج منگی رشتہ (انجیلی نام)

وَ تَلْقِيطٌ مُّبَشِّرٌ يَا سِينَا

تلقیط (رضی نام) ، بشارت دینے والے ، نا امیدوں کو

مُهَابٌ مُرْتَجَانَا طَابَ طَابَا

رعب والے ، ہماری امیدوں کا مرکز ، نفیس اور اچھے (توراتی نام)

صَفْوَةٌ فِي الطَّيِّبِينَا

درگزر کرنے والے برگزیدہ ہیں سب پاکیزوں میں ہی

رَضِيَ ۲۸۷ ذُو الْمَكَانَةِ ۲۸۸ مُرْتَضَانَا ۲۸۹

رضا والے ، بڑے مرتبہ والے ، اللہ کے پسندیدہ ہمارے نبی ،

سَخِي ۲۹۰ ذُو عَطَايَا ۲۹۱ مَا اَزْدُرِينَا ۲۹۲

سخاوت والے ان عطیات والے جو کسی طرح حقیر نہیں سمجھے جاتے

وَمِيزَانٍ ۲۹۳ وَبُرْهَانَ ۲۹۴ بَيَانٍ ۲۹۵

میزانِ حق ، دلیل ، بیانِ حق

أَمَانٌ ۲۹۶ اللَّهُ عِنْدَ الْخَائِفِينَ ۲۹۷

خدا تعالیٰ کی طرف سے امان ڈرنے والوں کے نزدیک

مُعْزَرٌ ۲۹۸ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۲۹۹

مزا دینے والے ہر تکبر سرکش کو

مَصَافِحُ ۳۰۰ كُلِّ مَنْ أَمْسَى قَطِينًا ۳۰۱

مصافحہ محبت کرنے والے ہر اس شخص سے جو خادم بنا

وَخَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُقْتَفَى ۳۰۲ اذْ ۳۰۳

مگر انبیاء میں افضل سب کے آخر کیونکہ آپ

قَفَاهُمْ ۳۰۴ وَهُوَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ ۳۰۵

سب سے آخر میں پیدا ہوئے اور آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں

مَلِي ۳۰۶ دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ ۳۰۷ بَدْرًا ۳۰۸

صاحبِ غنا و تقویٰ، دعوتِ توحید والے ، نبوت کے بدر

وَتَشْمَسُ لَا كَشْمِيسِ الْمُبْصِرِينَ ۳۰۹

اور آفتاب ہیں لیکن اللہ ہی اس آفتاب کے جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے

ظَفُورٌ صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ لَيْلًا

بڑے کامیاب ، صاحب معراج ، رات کے وقت

عَلَا حَتَّى تَخْلَفَ طُورَ سَيْنَا

بلند ہوئے یہاں تک کہ کوہ طور سینا کو پیچے پھوڑ گئے

تَرْفِيعُ الذِّكْرِ ذَاكِرُنَا وَ ذِكْرٌ

عظیم الشان ذکر والے امت کو یاد کرنے والے ، ذکر ،

وَمَذْكُورٌ مُذَكِّرٌ تَائِبِينَ

یاد کیے ہوئے نصیحت کرنے والے ہیں توبہ کنندگان کو

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ - مُسْتَقِيمٌ

سیدھی راہ ، درست عمل والے

وَذَكَارٌ وَ خَيْرُ الذَّاكِرِينَ

اور بہت یاد کرنے والے اور سب سے بہتر ذکر کرنے والے ہیں

مَفْضَلْنَا وَ فَضْلُ اللَّهِ طَهٌ

ہم سب میں افضل ، خدا کا فضل نے انسان کامل

وَمَفْضَالٌ وَ مُعَلِّمَاتَا سَكُونًا

بڑے مہربان اور ہمیں بلند کرنے والے اطمینان قلب کے لحاظ سے

وَمَوْثِقَمَنْ مُهَاجِرٌ مَوْلِدٍ مَعٌ

اور امانت والے ، مکہ سے ہجرت کرنے والے ، ساتھ

أَبِ بَكْرٍ وَ مَا أَعْلَى خَدِينَا

ابوبکر صدیقؓ کے اور صدیقؓ بڑے اعلیٰ رفیق ہیں

وَمَمْنُوعٌ ۙ وَ مَنْحِبَتَا وَ مَوْحِي

حفاظت کیے ہوئے ، ستائش کیے ہوئے (سرپائی نام) بذریعہ وحی

إِلَيْهِ الْعِلْمُ فَوْقَ الْأَعْلَيْنَا

علم دیے گئے ہیں تمام الہی علم سے زیادہ

زَكِيٌّ ۙ عَادِلٌ طَاسِيْنَ ۙ أَنْقَىٰ

پاکیزہ ، عدل والے ، طاسین ، سب سے زیادہ پاکیزہ

مَعْلَمٌ حَاضِرِيْنَ وَ غَائِبِيْنَ

تعلیم دینے والے حاضرین و غائبین کو

وَدَائِرَ الْحِكْمَةِ الْعَلِيَّا وَمَوْتَىٰ

بلند علم و حکمت کے مرکز ہیں انہیں عنایت کیے گئے

جَوَامِعَ كَلِمَةٍ عِقْدًا حَسِيْنَا

ہیں جامع کلمات بے خوب صورت ہار

وَمُطَّلِعٌ ۙ وَمُطَّلِعَاتَا نَجْوَىٰ

اسرارِ وحی جاننے والے ، ہمیں اطلاع دینے والے ، اللہ کے ہمراز ،

مُنَادِي النَّاسِ رِيَاكُمُ وَ زَوْنَا

لوگوں کو یہ صدا دینے والے کہ دور رہو بہتوں سے

مَحْرَمٌ كُلِّ مَا يَأْتِيهِ وَحْيٌ

ہر اس شے کی حرمت بتانے والے جس کے بارے میں

بِهِ لَمْ يَأَلْ جُهْدًا أَنْ يَسِينَا

حرمت کی وحی آئی ، آپ نے ذرا کوشاں نہیں کی حکم واضح کرنے میں

مَحَلِّ مَا أُحِلَّ وَ مَا أْتَانَا

محل کو طلال بتانے والے ، اور جو حکم آپ لے آئے ہیں

فَامْتَابِهِ وَ بِهِ رَضِينَا

ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر راضی ہیں

أَحَادِيثُ النَّبِيِّ مُحَرَّمَاتٌ

نبی علیہ السلام کی احادیث بھی حرام کرنے والی ہیں

كَمِثْلِ كِتَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جس طرح قرآن خدا تعالیٰ سے حرمتِ اشیاء ثابت ہوتی ہے

وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِنَّ هَوًى وَ هَمًّا

آپ نے احادیث پر نطقِ خواہشِ نفس یا نبطی سے نہیں کیا

فَهُنَّ الْوَحْيُ لَكِنْ مَا تَلِينَا

پس احادیث وحی ہی ہیں البتہ ان کی تلاوت نہیں کی جاتی

وَ قَدْ لُعِنَ الَّذِي قَدُشَكَ فِيهَا

بے شک ملعون ہے وہ جو احادیث میں شک کرے

غَدًا يَدْرِي الَّذِي ظَنَّ الظُّنُونَا

بعد الموت جان لے گا وہ جو اس قسم کی بہگمانی کرے

وَ رَدُّ حَدِيثِهِ فِسْقٌ وَ كُفْرٌ

اور احادیث کا انکار فسق و کفر ہے

وَ يَكْفُرُ مَنْ يَظُنُّ بِهِ مَجُونَا

اور کافر ہے وہ جو احادیث کے لغو ہونے کا خیال کرے

۲۳۱ وَصَنَدِيدٌ قَتُومٌ كَانَ بَشْرِي

سروار و سخی، جامع برکات، تھے بشارت

۱ لِعِيسَى وَهُوَ أَقْرَبُ مُبَشِّرِينَا

عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ سب بشارت دینے والوں میں قریب تر ہیں

۲۳۲ مَعْقِبٌ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ طُرًّا

سب انبیاءِ طیبہم اسلام کے آخر میں پیدا ہونے والے

۲۳۳ وَ مَعْلِنٌ حُكْمِ رَبِّ الْمَعْلِينِ

اور اعلان کرنے والے ہیں اعلان کنندگان کے رب کے حکم کے

۲۳۴ وَ عَبْدُ الْخَالِقِ اسْمًا فِي جِبَالِ

اور آپ کا نام عبدالحق ہے پہاڑوں میں

۲۳۵ وَ أَوْلَهُمْ وَ آخِرُ مَرْسَلِينَا

اور پہلا نوح و حقیقت سب انبیاء سے مقدم اور بظاہر تمام سے آخر ہیں

۲۳۶ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الْكُبْرَى وَجِيَّةٌ

نبی ہیں بڑی رحمت کے، جاہ و عزت والے

۲۳۷ وَ مَرْحُومٌ رَحِيمٌ الرَّائِعِينَا

رحم کیے ہوئے رحم کرنے والے مسلمانوں پر

۲۳۸ شَهِيدٌ شَاهِدٌ مَا كَانَ حَيًّا

گواہ، گواہی دہندہ جب تک آپ زندہ تھے

۲۳۹ وَ مَشْهُودٌ الْمَلَائِكِ سَائِحِينَا

حاضر کیے ہوئے آپ کے پاس وہ فرشتے جو گھومتے رہتے ہیں

خَطِيبُ النَّاسِ مَبْعُوثٌ لِيَبِّ  
 سب سے خطیب ، بیجے ہوئے ، عقل مند ،

خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ السَّالِفِينَ  
 خطیب ہیں تمام جوشتہ انبیاء پیشہ سلام کے

وَكَانَ خِطَابُهُ نُورًا فَطُوبَى  
 اور آپ کا خطاب مثل نور تھا ، زہے نصیب

لِمَنْ سَمِعُوهُ فِي الدَّهْرِ حِينَا  
 ان کا جو زندگی میں ایک ساعت آپ کا کلام سن چکے

وَذُو فَضْلٍ وَذُو عِزٍّ هَجُودٌ  
 صاحبِ فضل ، صاحبِ عزت ، جاگنے اور تہجد اور کرنے والے

وَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَابِدِينَ  
 بندے اُس خدا کے جو کل عبادت گزاروں کا پروردگار ہے ۔

مَحْمُودٌ نِعْمَةُ اللَّهِ وَ غَيْثٌ  
 بلند مرتبہ والے ، اللہ کی نعمت ، بارانِ رحمت

وَ أُمِّي غِيَاثُ الظَّالِمِينَ  
 امی ، فریاد رس ہیں ایشفاقانہ ما طلب کنندگانِ مارجست کے

خَلِيلٌ قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي  
 مفلس و دستِ خدا ، تقسیم کرنے والے ، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں

وَلَوْ يَلْفِظُ بِلَا لِلسَّائِلِينَ  
 اور لفظ لا انہیں زبان پر نہیں لاتے ، مانگنے والوں کے لیے

حَقٌّ جَامِعٌ مَّلِكٌ مَّلِيكٌ

مہربان و معاون، جمع کرنے والے، شاہِ انبیاء، سلطانِ رسل

نَذِيرٌ مُنذِرٌ لِّلظَّالِمِيْنَ

ہدایت نامہ سے خبردار کرنے والے، اور ڈرانے والے سرکشوں کو

نَصِيحٌ خَاضِعٌ لِّسِنِّ حَبِيْبٍ

خیر خواہ، منکرِ نصیح، یارِ مُدِّ و غلق،

مَحَبَّتِنَا وَاَوْلَاتِنَا يَقِيْنًا

ہماری محبت اور ہم انہوں سے یقیناً افضل ہیں

وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَعٍ بَلٌّ

سب سے اول شفاعت کنندہ، اول شفاعت قبول کیے ہوئے، بلکہ

هُوَ الْفَيْتَاحُ بَابَ الشَّافِعِيْنَ

آپ کھولنے والے ہیں شفاعت کنندگان کے لیے شفاعت کا دروازہ

سَبِيْلُ اللهِ مِنْ سَدَكُوْهُ فَارُوْا

خدا کی راہ، جو بھی اس راہ پر چلے کامیاب ہوں گے

بِفِرَادٍ وَّيَسٍ وَّعَدْنِ خَالِدِيْنَ

جنتِ فردوس و جنتِ عدن حاصل کرنے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

وَكَيْدٍ صَّالِحٍ مُتَوَكِّلٍ فِي

دوسروں کے کام کرنے والے، نیک، اللہ پر توکل والے

اَمْوَالِ الدِّيْنِ تُكْلَانَا سَرَّصِيْنَا

امورِ دین میں علم یا توکل

وَ أَكْثَرَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ جَمْعًا

اور جملہ انبیاء میں آپ کی جماعت و امت زیادہ ہے

وَ أَكْرَمَ وُلْدِ أَدَمَ أَكْتَعِينَا

اور شریف تر ہیں تمام اولادِ آدم میں

رَقِيبٌ أَخَذَ الْحُجْرَاتِ حِفْظًا

نگہبان ، پکڑنے والے امت کی کمر تاکہ بچائیں

مِنَ النَّارِ الَّتِي لِلْكَافِرِينَ

اُس آگ سے جو تیار ہوئی ہے کافروں کے لیے ،

وَسَيَلْتَنَا نَيْبٌ مُّسْتَعِيدٌ

آپ پر ایمان لانا وسیلہ نجات ، اہل نوب و لے ، خدا کی پناہ لینے والے

وَ نَجْمٌ شَاقِبٌ لِّلْمُدْحِينَا

ستارہٴ ضرور نشان رات کو چلنے والوں کے لیے

وَ شَافِيٌّ اِثْنَيْنِ فِي غَايَةِ ثَوْرٍ

دو ساتھیوں میں دوسرے غارِ ثور میں

تَقِيٌّ حَافِظٌ لِّلْمُحْجَرِينَ

مقنی ، محافظ ہیں مجبور و مظلوم لوگوں کے

مَجِيدٌ حَائِدٌ قَتْمٌ وَ وَاوِيٌّ

بہ طرف حق پھرنے والا ، باطل سے پھرنے والا ، جامع برکات ، وفادار ،

وَفِيٌّ وَاعِظٌ مِّنْ يُجْرِمُونَ

کامل منور و شہید والا ، وعظ کرنے والے انہیں جو گناہ کرتے ہیں

بَصِيرٌ حَاتِمٌ حَامِيمٌ رَاضٍ

دانش مند ، اعلیٰ صوت سیرت والا ، حتم ، رضامند ،

بَشِيرٌ لِلْكَرَامِ الْمَحْسِينِ

خوش خبری دینے والے نیکو کاروں کو

مَجِيدٌ فَاتِحٌ عَافٍ نَبِيٌّ

پناہ دہندہ ، فتح کرنے والا ، معاف کرنے والا ، بڑے ہوشیار

وَكَانَ لِأَيِّ قُرْآنٍ مَّيْنًا

اور تھے آیات قرآن کی وضاحت کرنے والے

حَسِيبٌ حَاشِرٌ قَسَمٌ طَهُورٌ

کفایت کرنے والا ، سب پلے ترے اٹھنے والا ، قسم ، پاک کشتہ

مُطَهَّرٌ مُطَهَّرٌ رَاغِبٌ

پاک میں پاکیزہ تر ، پاک کرنے والا ، رغبت اسلام رکھنے والوں کو

تِهَامِيٌّ صَفِيٌّ اللَّهُ جَدُّ

حک کے باشندے ، اللہ کے دوست ، عظیم القدر

مُقَدَّسَةٌ وَخَيْرٌ مُقَدَّسِينَا

اللہ کے پاک کیے ہوئے اور سب سے زیادہ خدا کی پاک بیان کرنے والے ہیں

وَسُرُوحٌ ذُو الْهَرَاوَةِ سُرْخَلِيطُسٌ

روح روان اسلام ، سورئ لاشمی والے ، ستودہ (سرخالی نام)

وَزَاهِرُنَا وَاجْمَلُ زَاهِرِينَا

منور پیشانی والا ہمارے نبی اور تمام خوب روؤں سے زیادہ حسین

سَنَائِيَا ضَيْغَمٌ ۚ شَهْمٌ ۚ مَشِيرٌ ۚ

روشنی ، شیردل ، سردار ، صبح مشورہ دہندہ

وَ فَارُوقٌ ۚ وَ خَيْرُ الْفَارِاقِينَا ۚ

بڑے امتیاز کرنے والے حق و باطل میں ، اور نکل امتیاز کرنے والوں سے بہتر

وَ فَرَادٌ ۚ رَاكِبٌ جَمَلًا ۚ سَرِيْعٌ ۚ

بے نظیر ، اونٹ پر سوار ، اظہار حق میں تیز

وَ عَاضِدُنَا ۚ وَ ذَخْرُ الرَّاشِدِيْنَا ۚ

ہمارے مددگار ، ذخیرہ نیکوکاروں کے لیے

خَلِيْفَةٌ رَآيَهُ فِي نَشْرِ دِيْنٍ ۚ

اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں دین کی اشاعت میں

وَ نَصْرَتِهِ ۚ وَ خَيْرُ النَّاشِرِيْنَا ۚ

و نصرت میں اور آپ بہترین اشاعت کنندہ ہیں

وَ جَوَادٌ ۚ عِمَادٌ ۚ عَمْدَةٌ ۚ قَدٌ ۚ

بڑے سخی ، سزا مستند ، جو دوسرے کیلئے تھماں ، بے شک

اَقَامَ الدِّيْنَ اَرْكَانًا وَ بَوَانًا ۚ

آپ نے قائم و استوار کیے دین کے ارکان اور ستون

حَبِيْبٌ اللّٰهُ بِجَاهِ حَاطِحَاطَا ۚ

اللہ کے محبوب ، خوبصورت ، حاطحاط (زبوری نام)

بِهِيٍّ ۚ بَلْ بَهَاءُ الْاَجْمَلِيْنَا ۚ

حسین و دان ، بلکہ تمام خوبصورتوں کا حسن ؛

شَمَالٌ ۲۲۹ لِّلرَّامِلِ ۲۲۸ وَ الْيَتَامَىٰ

فریادرس ہیں بیوہ عورتوں اور یتیموں کے

وَ كَانَتْ ۲۳۰ لِعِصْمَةِ الْبَارَىٰ مَصُونَا ۲۳۱

اور تھے محفوظ بہ برکت حفاظت رب تعالیٰ

حَفِيفٌ ۲۳۱ وَ ۲۳۲ وَ ۲۳۱ وَ ۲۳۲ وَ ۲۳۱ وَ ۲۳۲ وَ ۲۳۱

نگہبان (دین) ، وسیع افلاق و علم والے

وَ مَعْرَمٌ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۱

اور بے مددشتاق اس کے کہ ہم طبع و دین دار نہیں

شَدِيدٌ ۲۳۲ خَيْرٌ ۲۳۱ خَلَقَ ۲۳۰ اللّٰهَ ۲۳۱ طُرًّا ۲۳۰

اوردہنی میں سخت سب مخلوق خدا سے افضل

وَ خَيْرٌ ۲۳۱ النَّاسِ ۲۳۰ خَيْرٌ ۲۳۱ الْعَالَمِيْنَا ۲۳۰

بہتر انسانوں سے اعلیٰ ، اور سارے عالم سے بہتر ہیں

وَ اَطِيْبُهُمْ ۲۳۰ ۲۳۱ بِغَيْرِ الطَّيْبِ ۲۳۰ طَبْعًا ۲۳۰

اور بغیر عطر کے سب سے زیادہ معطر بدن والے ، نطرۃ

وَ اَلْيَنَّهُمْ ۲۳۰ ۲۳۱ يَدَاہُ ۲۳۰ الْقَزُّ ۲۳۰ لِيْنَا ۲۳۰

سب سے زیادہ نرم بدن والے ، گویا آپ کے ہاتھ ریشم ہیں نرمی میں

قَرِيْبٌ ۲۳۰ ۲۳۱ ظَاهِرٌ ۲۳۱ جِسْمًا ۲۳۰ وَ لٰكِنْ ۲۳۰

آپ قریب و ظاہر ہیں جسمانی طور پر لیکن

عَظِيْمٌ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۰

بڑے اور ہوشیہ ہیں ہم سے باستبار بلند شان

كَثِيرٌ الصَّمْتِ وَهَابٌ الْهَدَايَا

زیادہ خاموش رہنے والے، بڑے ہدایا بخشنے والے،

وَمَنْتَجِبٌ وَمَنْتَجِبٌ يَقِينًا

برجگزیہ اور پختے ہوئے ہیں یقیناً

وَرُوحَ الْحَقِّ رُوحَ الْقَدِيسِ مَوْلَى

جانِ حق جانِ پاکیزہ، آقا

وَرُوحَ الْقِسْطِ عِنْدَ الْمَقْسُطِينَ

اور جانِ عدل انصاف کنندگان کے نزدیک

وَسَعْدُ اللَّهِ سَعْدُ الْخَلْقِ فخر

برکتِ اللہ تعالیٰ، نیک مخلوق میں نیک بخت، باعثِ فخر

سَعِيدًا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

سب اچھے اور پچھے لوگوں میں بڑی سعادت والے

مُحَرِّضِنَا عَلَى تَحْصِيلِ عِلْمٍ

ہمیں ابھارنے اور ترغیب دینے والے طلبِ علم پر

يَأْقِصِي الْمُلُكِ بَلْ لَوْ كَانَ صِينَا

دور دور ملکوں میں اگرحم وہ چین ہی کیوں نہ ہو

عَلِيمٌ عَالِمٌ بَحْرٍ مَلِكٍ

زیادہ علم والے، جاننے والے، بحرِ علم و کمال، فرماں بردار،

زَعِيمٌ الْأَنْبِيَاءِ الْغَايِبِينَ

تمام گمراشتہ انبیاءِ عظیمِ اسلام کے نمائندہ

صَبِيحٌ ضَابِطٌ سَنَدٌ زَكِيٌّ

حسین ، تحاضے والے ، مستند ، پاکیزہ

وَشَكَارٌ وَ زَيْنٌ الْكَائِنِيَا

زیادہ شکر کنندہ اور جملہ موجودات کی زینت

مُعِينٌ مُخْلِصٌ مُتَضَرِّعٌ فِي

امداد کنندہ ، انخلا والے عاجزی کرنے والے ،

عِبَادَةِ رَبِّهِ يَبْكِي اَنِينَا

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زار و قطار روتے تھے

وَعَ مَوِيْدَةٌ وَ مَنْصُورٌ سَلَامٌ

خدا کی تائید حاصل کیے گئے ، مدد دیے ہوئے ، عیب نقص سے پاک

وَ مُنْتَصِرٌ وَ نَاصِرٌ صَا رِحِيْنَا

دین کے لیے بدلہ لینے والے اور مددگار ہیں فریاد کرنے والوں کے

مُبَلِّغٌ حُكْمِهِ مُهْدِيٌّ عَزِيْزٌ

حکم خدا پہنچانے والے ، روحانی تھے دہندہ ، محرابی

مَعَزْنَا اِمَامٌ الْعَالَمِيْنَا

ہمارے معزز نبی ، پیشوا سارے عالم کے

وَ مَغْنٌ سَابِقٌ عَرَبًا غَنِيٌّ

مستغنی کرنے والے ، شکر عرب سے آگے ، غنی ہیں

يَقْلِبُ اَيْنَ مِنْهُ الْمَكْرُوْنَا

دل کے یہ ہمیں غنا دولت مندوں کو کہاں حاصل ہو سکتی ہے

وَبَعْرَ زَاخِرٍ عَيْنٍ وَ نَجْمٍ

اسرار نبوت کے گہرے سمندر، سردار اور ستارہ روشنی

وَبَرْقِطُسٍ وَ حَامِيٍّ الْمَرْمِلِيْنَا

ستاروں کی جگہ (رومی نام) حمایت کرنے والے غریبوں کی

وَسْتَنْ نَائِجِزٍ مُّتَرَبِّصٍ فِي

مستقل مٹی انگلیوں والے، مدد پورا کرنے والا، مددگار کے منتظر

أُمُورٍ نَّالَهَا الْمُتَرَبِّصُونَ

ان امور میں جن میں حوصلہ و انتظار والے ہی کامیاب ہوتے ہیں

لِمَا أَعْلَىٰ مُجْتَبَانَا

برقسم کی نیکی میں رہنا، سب الہی، برگزیدہ ہمارے نبیؐ

نَقِيبٍ مُّنتَقِيٍّ فِي السُّنْدِيْنَا

حقوق امت کے محافظ، چنے ہوئے پیغمبروں میں

وَعَيْنٍ الْعِزِّ مَعْرُوفٍ عَفْوٍ

میں عزت، جاننے پہچانے ہوتے، بہت گزر کھنے والے

لَنَا فَرَطٌ تَقَدَّمَ كِي يُعِينَا

حشر میں ہماری سہولت کا انتظام کھنے والا، آگے گئے تاکہ مدد کر سکیں

وَلَوْ لَا سَيِّدَايَ مَا كَانَ كُونٌ

اگر میرے آقا دنیا میں نہ ہوتے تو یہ دنیا موجود نہ ہوتی

فَكَانَ وَجَادَهُ مَاءً مَّعِينَا

سو آپ کا دھردل کائنات کے لیے جاری پانی ہے

حَوَىٰ أَسْمَاءُ ۗ الْعُلْيَا تَشِيدِي

جمع کیا آپ کے بلند اسماء کو میری خوبصورت نظمنے

كَسْبِكِ فِي الْمَحَافِلِ طَابَ جُونَا

مانندِ مشک محفلوں میں جو محفلوں کے ساتھ عطردان کو بھی مصروف نے

وَزَنْتُ بِهَا التَّشِيدَ فَجَدَّ سَعْدِي

اور میں نے مزین کیا ان سے یہ قصیدہ - زہے میری خوش بختی

كَدِّرَ زَانَ أَصْدَافًا مِلِينَا

بسیا کر موتی مزین کر دیں سپیوں کو جو اُن سے پُر ہوں

شَفَاعَتُهُ الْعَرِيضَةُ عُدَّةٌ لِي

آپ کی وسیع شفاعت میری زرادہ ہے

وَمَا مَوْلِيُ وَ مَا لِي مُسْتَبِينَا

اور امیڈوں کا مرکز اور میرا مال واضح طور پر

أَتَحْرِمُنِي شَفَاعَتَهُ فَلَا لَا

کیا آپ مجھے اُن کی شفاعت محروم کریں گے نہیں ایسا نہ ہو

فَإِنِّي مُسْلِمٌ رَبِّي يَمِينَا

کیوں کہ میں مسلمان ہوں اے اللہ آپ کی قسم

نَعَمْ عَاصٍ وَ لَكِن لَيْسَ جُرْمِي

ہاں عیبگار ہوں لیکن میرا جرم بڑا نہیں ہے

بِأَعْظَمِ مِنْ خَوَانِكَ كِي تَهِينَا

آپ کے خونِ کوم سے ، کہ آپ مجھے ضرر رسوا کریں

وَجَلَّ الذَّنْبُ لِيْ وَ اَجَلُّ مِنْ ذَا

میرے گناہ بڑے ہیں لیکن ان سے بھی بڑے ہیں

جَدَاكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُجْتَدِيْنَ اَنَا

آپ کے عطایا اور آپ سب دینے والوں سے بہتر ہیں

فَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ اَهْلُ

پس ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما، جس کے ہم گنہگار مستحق ہیں

لَهُ اِنْ لَا نَكُنْ مِنْ خَاسِرِيْنَ

ورنہ پھر تو ہم خسارہ والوں میں سے ہونگے۔

بَلِ افْعَلْ سَابِقًا مَا اَنْتَ اَهْلُ

بلکہ کرم کا وہ معاملہ فرما لے اللہ جس کے اہل آپ ہیں

لَهُ وَ اَرْحَمُ فَكُنْتَ بِهٖ قَمِيْنَا

اور رحم کر کیوں کہ آپ ہی رحم و کرم کے اہل ہیں

خَفِيَ اللُّطْفِ اَدْرِكُنِيْ بِلُطْفِ

اے معنی مہربانی والے پائیجیے گا اپنی عنایات سے مجھے

وَ حِزْبًا يَسْمَعُوْنَ وَيَقْرَءُوْنَ

اور وہ گروہ بھی جو اس قصیدے کو سننے اور پڑھے

وَ صُحْبَةً مُصْطَفَاْنَا اَسْرَاجِيْهَا

اور نبی علیہ السلام کی رفاقت کا اسیدوار ہوں

بِفِرَادُوْسٍ لِاٰخِداَمَةِ قَطِيْنَا

جنتِ فردوس میں تاکہ خادم بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں

وَسُرُّوَيْتِكَ الَّتِي تُنْسِي نَعِيمًا

اور امیدوار ہوں آپ کے دیدار کا بھی جو بھلا دے ہر نعمت کو

سِوَاهَا مَا تَسُرُّ النَّاطِرِينَ

اس کے سوا وہ دیدار جو ناظرین کو بڑی مسرت بخشتا ہے

وَهَبْ لِي الرِّوْحَ وَالرَّيْحَانَ رَبِّي

اور مجھے عنایت کیجیے راحت اور پھول ملے اللہ

بِجَنَّاتِ الْعُلَى وَالْحُورِ عِينًا

بستانوں میں اور حُورِ عین بھی

وَ أَنْتَ الرَّبُّ فَارْحَمْنِي فَإِنِّي

آپ ہی میرے رب ہیں سو مجھ پر رحم فرما کیونکہ میں نے

دَعَوَاتِكَ مُسْتَغِيثًا مُسْتَعِينًا

صرف آپ ہی کو پکارا ہے فریاد کرتے اور مدد مانگتے ہوئے

فِيَا اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا ثَبَاتًا

اے اللہ ہمیں خوب ثابت قدم رکھیے

عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى لَا نَخُونَا

دین اسلام پر تاکہ دین میں کسی طرح خیانت نہ کریں

وَ حَبِّبْ كُلَّ مَا تَرْضَى إِلَيْنَا

اور محبوب کر دیں ہمارے دلوں میں ہر وہ شے جو آپ کو پسند ہو

وَ وَفَّقْنَا لِمَا يُجِدُّ أَمِينًا

اور ہمیں توفیق بخش دیں اُس عمل کی جو نفع دے۔ آمین ثم آمین

قصیدہ حسنیٰ پڑھنے کے فوائد بیشمار ہیں۔ اسماء نبویہ کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چند اہم فوائد یہ ہیں۔

(۱) ہر قسم کی بیماری سے باذن اللہ شفاء (۲) مقدمات میں فتح (۳) دشمنوں کے شر سے حفاظت (۴) ملازمت میں ترقی (۵) افسران بالاسخر (۶) ماتحت عملہ تابع (۷) تجارت میں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو کر بڑا نفع ہوگا (۸) میاں بیوی میں محبت ہوگی، بیوی پڑھے تو خاوند تابع ہوگا اور خاوند پڑھے تو بیوی فرمانبردار ہوگی (۹) سفر بخیر ختم ہو کر بخیر واپسی ہوگی (۱۰) طالب علم کا ذہن تیز و حافظہ بڑھے گا (۱۱) نیک اعمال کی توفیق ملے گی (۱۲) دلوں کی تسخیر کیلئے بہت مفید ہوگا (۱۳) غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی (۱۴) رزق میں فراخی اور جادو سے بند کیا ہوا کاروبار پہلے سے زیادہ چالو ہوگا (۱۵) جنات و سحر کا اثر دور ہوگا (۱۶) بے اولاد و عقیمہ عورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائیں گے (۱۷) گمشدہ چیز مل جائیگی (۱۸) گھر سے بھاگا ہوا شخص جلد واپس آجائیگا (۱۹) جس کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں تو وہ ان شاء اللہ زندہ رہیں گے (۲۰) امتحان میں کامیابی ہوگی (۲۱) دلوں کا وسوسہ اور خوف و بے اطمینانی دور ہو جائیگی (۲۲) استحضارِ قلب سے بار بار پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی اور خواب میں آپ ﷺ کی زیارت ہوگی۔

(مصنف) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین سے اجازت لینے سے ان شاء اللہ تعالیٰ تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔

نوٹ :- عامل بننے کے بغیر بھی یہ فوائد حاصل ہونگے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن عامل بننے سے تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قصیدہ حسنیٰ کے عامل بننے کے طریقے چار ہیں۔  
 (اول) ۴۱ دن تک ہر روز ۳ دفعہ پڑھے (دوم) ۴۱ دن تک روزانہ ۷ دفعہ پڑھے (سوم) کسی ماہ (ربیع الاول ہو تو بہتر ہے) تین دن اعتکاف کر کے روزہ رکھے ایام اعتکاف میں روزانہ ۱۵ مرتبہ پڑھے، عامل بن جانے کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھے (چہارم) اول ۵۲ مرتبہ درود شریف پڑھ کر قصیدہ شروع کرے پھر آخر میں بھی ۵۲ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ۴۱ دن تک روزانہ ایک مرتبہ اسی طریقہ سے پڑھے۔

پڑھنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ (مصنف) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت کی اولاد و اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔